



سوال

(287) ایک شخص حالت سفر میں جنبی ہے مگر پانی نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی طویل راستہ میں ہے اور دوران سفر وہ جنبی ہو گیا مگر غسل کے لئے اس کے پاس پانی نہیں تو کیا وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے یا کیا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص بحالت سفر جنبی ہو جائے اور اس کے پاس کھانے پینے کی ضرورت سے اس قدر زائد پانی نہ ہو جس سے وہ غسل کر سکے پانی کو تلاش بھی کرے لیکن ظن غالب یہ ہو کہ اس علاقے میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مِنَ الرَّيذِلِ الَّتِي اتَّخَذَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ نِعْمَةً وَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ 1 ...

سورة المائدة

اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیست الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کرو اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ (فتویٰ کمیٹی)

صدر اعظمی والند اعظم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 293

محدث فتویٰ